



عنقریب مسلمان کا سب سے بہترین مال بکریاں ہوں گی جنہیں لہ کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے گا

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: ”عنقریب مسلمان کا سب سے بہترین مال بکریاں ہوں گی جنہیں لہ کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات (سرسبز جگہوں) کی طرف چلا جائے گا تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے محفوظ رکھ سکے۔“
[صحیح] [اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے]

اس حدیث میں فتنوں کے دور میں عزلت نشینی کی فضیلت کا بیان ہے ماسوا اس کے کہ اس بندے میں فتنے کو دور کرنے کی طاقت ہو اس صورت میں اس پر واجب ہے کہ وہ فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کرے ایسا کرنا اس پر یا تو فرض عین ہے یا پھر حالات و امکانات کے لحاظ سے فرض کفایہ ہوگا تاہم فتنے کے علاوہ دیگر دنوں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ ان میں انسان کے لیے عزلت نشینی اور لوگوں سے گھل مل کر رہنے میں سی کون سی صورت افضل ہے؟ زیادہ پسندیدہ قول یہی ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہے اگر اسے غالب گمان ہے کہ وہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہوگا "یفر بدینہ من الفتن" یعنی اس اندیشہ کے تحت بھاگ جائے گا کہ اپنے دین کے معاملے میں وہ فتنوں کا شکار نہ ہو جائے اسی وجہ سے انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ جن علاقوں میں شرک عام ہے وہاں سے ہجرت کر کے ان علاقوں میں آ جائے جہاں اسلام کا غلبہ ہے اور اسی طرح جن علاقوں میں فسق و فجور کا دور دورہ ہے وہاں سے چھوڑ کر ان علاقوں میں آ جائے جہاں (اسلام پر) استقامت کا غلبہ ہے لوگوں اور وقت کے تغیر کے ساتھ ایسے ہی کرنا چاہیے۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/6829>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

